



سوال

(693) تشہد میں امام کے ساتھ ملنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب میں مسجد میں جاؤں اور امام نماز جمعہ میں حالت تشہد میں ہو تو کیا میں جمعہ کی نماز پڑھوں یا ظہر کیا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب کوئی شخص نماز جمعہ میں سجدہ یا تشہد میں آکر ملے تو اسے جمعہ کے بجائے نماز ظہر پڑھنا ہوگی کیونکہ جمعہ کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم ایک رکعت ضرور پالے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (صحیح مسلم)

"جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پایا،"

اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ:

«من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة» (سنن الدارقطنی)

"جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے اس کی نماز ہوگئی۔" ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص جمعہ کی ایک رکعت بھی نہ پاسکے اس کا جمعہ فوت ہو گیا لہذا اسے ظہر کی نماز پڑھنے چاہئے۔ واللہ ولی التوفیق۔ (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)
حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1



صفحہ نمبر 541

محدث فتویٰ